

48. Nigbati nwọn ba sọ fun wọn pe ki nwọn ƚeriba (kirun) nwọn kọ lati ƚeriba (kirun).

49. Egbe ni ni oḡo na fun awọn ti nwọn pe ododo nirọ.

50. Ewo ni ọrọ ti nwọn o gbagbo ƚehin rẹ (Al-Kùrani)?

(78) Suratul - Nabai

*Ni orukọ Qlọhun Ajọkẹ aiyẹ,
Aṣakẹ ọrun.*

1. Nipa kini nwọn mbi ara wọn lerè?
2. Nipa iro (Nabai) nla ni.
3. Eyiti ẹnụ wọn kò kò nipa rẹ.
4. Rara o, nwọn mbọ wa mọ:
5. ƚehinna laipe nwọn mbọ wa mọ.
6. Njẹ Awa kọ ni A ẹ ilẹ ni titẹ.
7. Ati awọn oke ni êkàn?
8. Awa kọ ni A da nyin lakọ-labo.
9. Atipe A ti ẹ orun nyin ni isinmi.
10. Atipe A ẹ oru ni ibora.
11. Atipe A ẹ ọsan ni wiwa ije-imu.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٧٨﴾

وَلِيَوْمِذِكَ الَّذِينَ ﴿٧٩﴾

فَأَيُّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٠﴾



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾

عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾

الَّذِي هُوَ فِيهِمْ خَلِيفُونَ ﴿٣﴾

كَلَّا سِعَامُونَ ﴿٤﴾

تُوذَىٰ كَلَّا سِعَامُونَ ﴿٥﴾

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مَهْدًا ﴿٦﴾

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَاسًا ﴿١٠﴾

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

12. Atipe Awa ti mo awon pepe (sanma) to nipan meje si ori nyin.

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَمَاوَاتٍ مُّتَدَاوِمَاتٍ ﴿١٢﴾

13. Atipe A še atupa ti o mọlẹ kan.

وَجَعَلْنَا بَيْرَاجًا وَهَاجًا ﴿١٣﴾

14. Atipe Awa nsọ omi ti nda pupọ kalẹ lati inu ẹṣu-ojo.

وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً نَّجْمًا ﴿١٤﴾

15. Ki A ba le mu horo ati irugbin jade pẹlu rẹ.

لِيُخْرِجَ بِهِ حَبَابًا وَأَبْنَاؤًا ﴿١٥﴾

16. Ati awon oko ti o kun fun nkan gbẹdẹgbẹdẹ.

وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾

17. Dajudaju ojo ipinya ni je nkan ti oni asiko.

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿١٧﴾

18. Ojo ti a ba fun fẹrẹ ẹnyin yio ma jade nijọ-nijọ.

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾

19. Atipe a o si ẹnu ọna sanma silẹ yio di awon ẹnu ilekun.

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾

20. A o ku awon okè danù, yio di anpẹna.

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

21. Dajudaju ina Jahannama yio lugo.

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾

22. De awon olukoja ẹnu-àlà ni ibuṣẹri si.

لِلطَّاعِينَ مَنَابَا ﴿٢٢﴾

23. nwon yio ma gbe inu rẹ fun igba-gbọrọ.

لِيُنَبِّئَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾

24. Nwon kò ni tọwo ninu rẹ itura tabi mimu (tutu).

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾

25. Ayafi omi-gbigbona ati omi-awoyun-weje.

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾

26. Ɛsan ti o tɔ (si işe wɔn).

جَزَاءَ وَفَاءًا ﴿٣٦﴾

27. Dajudaju nwɔn kò ti ni ireti si oƣo işiro.

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٣٧﴾

28. Atipe nwɔn pe awɔn ɔrɔ Wa nirɔ.

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿٣٨﴾

29. Atipe Awa siro gbogbo nkan ni akɔsilè.

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٣٩﴾

30. Nitorina e tɔ (iyà) wò, nitoripe A kò ni še alekun kan fun nyin ju iyà lɔ.

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٤٠﴾

31. Dajudaju erenje mbɛ fun awɔn olupaiya.

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٤١﴾

32. Ogbà ati eso ajara (Inabi).

حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٤٢﴾

33. Ati awɔn ɔdɔ (obirin) ti nwɔn kò ju ara wɔn lɔ.

وَكَوَاعِبَ أُنْرَابًا ﴿٤٣﴾

34. Ati ife ti o kun fun nkan mimu.

وَأَسَادِهَا قَافًا ﴿٤٤﴾

35. Nwɔn kò ni mǎ gbɔ ɔrɔkɔrɔ nibɛ ati irɔ.

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ﴿٤٥﴾

36. Ɛsan lati ɔdɔ Oluwa rɛ ni ɔrɛ ti o to.

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ﴿٤٦﴾

37. Oluwa awɔn sanma ati ilè ati ohun ti o wa ni agbedemeji wɔn, (Olohun) Ajokɛ aye, nwɔn kò ni le ba A sɔrɔ.

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ

مِنَهُ حِطَابًا ﴿٤٧﴾

38. Oƣo ti emi nǎ (Jibreel tabi Malaika miran) ati awɔn Malaika ti nwɔn yio to letoleto; nwɔn kò ni le sɔrɔ ayafi awɔn eniti (Olohun)

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ

إِلَّا مَن أَدِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٤٨﴾

Ajokę aije ba yonda fun ni yio şorşo ti o dara.

39. Eyini ni oşo otitoş, nitorina ęniti o ba fe ki o mu ęna ibi işeri lo si oşo Oluwa re şon.

40. Dajudaju Awa fi iyà tosunmo şe kilokilo fun nyin. Oşo ti enia yio mã wo ohun ti oşo re ti ti şiwaju. Alaigbagbo yio sope: Emi iba ti di iyepę nko (nko ba tidi ęni iyà).

(79) *Suratul - Nāsi'āti*

Ni orukọ Qlọhun Ajokę aije, Aşakę ęrun.

1. Mo fi (Nasiāti) awon ti ngba emi awon tikò gbagbo ni gbigba to le (niti tulasi) bura.

2. Ati awon ti nwon ngba emi awon olugbagbo ododo pelepeler.

3. Ati awon ti nyarayara sure lo.

4. Ati awon olugba iwaju ni gbigba waju.

5. Ati awon ti nfi nkan si eto.

6. Oşo ti owariri yio mã mi (olukuluku).

7. Ohun ti yio şelę yio tele e.

8. Awon okan kan yio mã gbon pepe ni oşo nã.

ذَٰلِكَ الْيَوْمَ الْخَاسِئُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا يَالِآٔ

إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ بَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْتَرَعَتِ غَوَاقِبًا

وَالنَّشِيطَاتِ نَشَاطًا

وَالسَّيِّدَاتِ سَيِّمًا

فَالسَّيِّدَاتِ سَبَقًا

فَالْمُدْرَاتِ أَمْرًا

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِفَةُ

تَتَّبِعُهَا الرَّاٰدِفَةُ

فَلَوْ يَوْمٍ وَّاحِفَةً